



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi - 74000, Pakistan.

UAN: 111-001-122 Fax: 32410825

Website: www.psx.com.pk Email: info@psx.com.pk

Ref. No. PSX/ _____

Date: October 3, 2025

THE DIRECTOR

Corporate Supervision Department
Company law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad

CHIEF LISTING OFFICER

Listing Department
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, Karachi

Dear Concerns,

SUBJECT: NOTICE OF 78th ANNUAL GENERAL MEETING

Please find enclosed the notice of the 78th Annual General Meeting of Pakistan Stock Exchange Limited (the Exchange) to be held on October 28, 2025, at 4:00 p.m., at the Registered Office of the Exchange and through video-conferencing facility.

The above-referred notice will be advertised in all editions of Business Recorder and Nawa-i-Waqt tomorrow, i.e. October 4, 2025.

Thanking you in anticipation,

Yours truly

DR. FAKHARA RIZWAN
Company Secretary

Encl: As above

پائیداری

ہے عزم ہمارا

ACHIEVING NEW HEIGHTS



Notice of Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the seventy-eighth (78th) Annual General Meeting (AGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX or the Company) will be held on Tuesday, October 28, 2025, at 4:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi and through video-conferencing facility, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of the Final Cash Dividend @ 17%, i.e. Rs. 1.70 per share for the financial year ended June 30, 2025.
3. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2026, until the conclusion of the next AGM and to fix their remuneration. In view of the recommendation of the Board's Audit Committee, and acknowledging that the retiring auditors, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants, have been engaged with the Company for six years, the Board of Directors has resolved to recommend the appointment of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants as statutory auditors of the Company.

By Order of the Board of Directors

Dr. Fakhara Rizwan
Company Secretary

Karachi
Dated: October 03, 2025

Note:

1. The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025 is accessible on below QR-enabled code:



<https://www.psx.com.pk/psx/exchange/psx-shareholder-information#financial-reports>

2. A member may submit a request at the registered office of the Company for certified copies of the minutes of previously held general meetings.

NOTES

1. The Register of Members will be closed from October 22, 2025, to October 28, 2025 (both days inclusive). Members registered as of October 21, 2025, will be eligible to attend and vote at the AGM.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the instrument of proxy and the power of attorney (POA) under which it is signed or a notarised certified copy of that POA at least 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. The form of proxy is annexed to this notice, and also available in the Annual Report and on the Company's website.

3. Any legal person which is a member of the Company may authorise any person to act as its representative at the meeting by providing a resolution of its board of directors, or a proxy duly signed by the authorized person. The person so authorised shall be entitled to exercise the powers of an individual member of the Company.
4. Since all shares issued to members are in a dematerialised format in their respective Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) accounts, the individual members desiring to attend the meeting in person, are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNICs) along with the Investor Account or Participant ID and House Account/Sub-Account numbers, for identification purposes. In the case of corporate members, the resolution of board of directors/POA with specimen signature of the nominee may preferably be provided to the Company well in advance or otherwise produced at the time of the meeting.

5. **Participation in AGM through Video-Conferencing Facility**

The Company is facilitating the shareholders to attend the AGM via video-link, in addition to physical arrangements for the meeting. Therefore, the shareholders are encouraged to participate in the AGM through video-conferencing facility. Accordingly, they are requested to get themselves registered with the Company Secretariat by providing the requisite details at their earliest but not later than 5:00 p.m. on October 24, 2025.

The shareholders can register themselves via e-mail (shareholders.affairs@psx.com.pk), by providing the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC/Passport and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the board of directors/POA with a specimen signature of the nominee must also be provided.

Name of Shareholder*	CNIC/NTN/Passport No.	CDC Account No.	Cell No.	E-mail Address
----------------------	-----------------------	-----------------	----------	----------------

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder or nominee of the shareholder.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the relevant videolink and the login credentials to their e-mail addresses, to enable the shareholders participate in the proceedings of the AGM through their smartphones or computer devices. The shareholders can also provide their comments or suggestions in connection with the agenda of the meeting by using the same email.

The above arrangement would also cover the requirement of Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 (the Companies Act), in relation to providing video-link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

6. **E-Dividend**

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, to be read with relevant provisions of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 (the Regulations), all listed companies have been mandated to pay the dividend only by way of electronic mode, directly into the bank accounts of entitled shareholders designated by them. Accordingly, all shareholders of the Company who have not yet updated their bank account details (including IBAN) under their participant/CDC Investor Account Services which maintains their CDC account, are requested to update the same at the earliest but prior to the commencement of book closure. Otherwise, the Company would be constrained to withhold their amount of dividend, if any, in accordance with the requirements of the Companies Act and the Regulations.

7. **Tax Implication on Dividend**

The deduction of income tax from dividend payments shall be made in pursuance of the applicable provisions of Income Tax Ordinance, 2001. In case of joint shareholdings, the tax will be deducted as per shareholding proportions intimated by the shareholders to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, latest by the first day of book closure, otherwise the shareholding will be treated in equal proportion. In addition, the withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate or stay order from a competent court of law is made available to the Company's Share Registrar, by the first day of book closure.

Form of Proxy

78th Annual General Meeting

I/We, _____ of _____, holding Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport No. _____ and being a member of Pakistan Stock Exchange Limited (the Company), hereby appoint _____ of _____, holding CNIC/Passport No. _____, or failing him/her hereby appoint _____ of _____, holding CNIC/Passport No. _____, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 78th Annual General Meeting of the Company, to be held on the 28th day of October, 2025 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _____ day of _____, 2025.

Witnesses:

1. Signature _____
 Name _____
 Address _____
 CNIC/Passport No. _____
2. Signature _____
 Name _____
 Address _____
 CNIC/Passport No. _____

CDC Account No.



Revenue Stamp of
PKR 5/-

To be signed by the above named shareholder

Notes:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy need not be a member of the Company.
2. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
4. The proxy-holder shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

پراکسی فارم

78 واں سالانہ اجلاس عام

میں / ہم _____ ساکن _____ حامل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ نمبر _____
 اور بطور رکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (کمپنی) _____ حامل CNIC / پاسپورٹ نمبر _____ یا اس کی عدم موجودگی میں
 _____ حامل CNIC / پاسپورٹ نمبر _____ کو مورخہ 28 اکتوبر 2025 کو کمپنی کے منعقد ہونے والے 78 ویں
 سالانہ اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لیے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے بطور نمائندہ (پراکسی) تقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔
 گواہان کی موجودگی میں میرے / ہمارے دستخط / مہر بروز _____ 2025 کو ثبت کیے گئے / کی گئی۔

گواہان:

1- _____ دستخط
 _____ نام
 _____ پتہ
 _____ CNIC / پاسپورٹ نمبر

2- _____ دستخط
 _____ نام
 _____ پتہ
 _____ CNIC / پاسپورٹ نمبر

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

پانچ روپے کارپوریٹ اسٹمپ

حصص یافتہ کے دستخط

نوٹس:

- 1- یہ پراکسی فارم مکمل اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کا نمبر ہونا لازمی نہیں۔
- 2- پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتے اور CNIC نمبر درج ہونے چاہیے۔
- 3- پراکسی فارم کے ساتھ تقرر کرنے والے اور پراکسی کے حامل فرد کے CNIC کی تصدیق شدہ نقول جمع کی جائیں گی۔
- 4- پراکسی کا حامل شخص اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC پیش کرے گا۔
- 5- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد / پاور آف اٹھرنی بشمول نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع ہونگی۔



UAN +9221-111-001-122 | www.psx.com.pk | info@psx.com.pk
Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi 74000
Phone: (92 21) 35205528-29



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi-74000, Pakistan
UAN: 111-001-122 Website: www.psx.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the seventy-eighth (78th) Annual General Meeting (AGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX or the Company) will be held on Tuesday, October 28, 2025, at 4:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi and through video-conferencing facility, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of the Final Cash Dividend @ 17%, i.e. Rs. 1.70 per share for the financial year ended June 30, 2025.
- To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2026, until the conclusion of the next AGM and to fix their remuneration. In view of the recommendation of the Board's Audit Committee, and acknowledging that the retiring auditors, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants, have been engaged with the Company for six years, the Board of Directors has resolved to recommend the appointment of M/s. BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants as statutory auditors of the Company.

By Order of the Board of Directors

Karachi

Dated: October 03, 2025

Dr. Fakhara Rizwan

Company Secretary

Note:

- The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025 is accessible on below QR-enabled code:



<https://www.psx.com.pk/psx/exchange/psx-shareholder-information#financial-reports>

- A member may submit a request at the registered office of the Company for certified copies of the minutes of previously held general meetings.

NOTES

- The Register of Members will be closed from October 22, 2025, to October 28, 2025 (both days inclusive). Members registered as of October 21, 2025, will be eligible to attend and vote at the AGM.
- A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the instrument of proxy and the power of attorney (POA) under which it is signed or a notarised certified copy of that POA at least 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. The form of proxy has been disseminated to the shareholders and also available in the Annual Report and on the Company's website.
- Any legal person which is a member of the Company may authorise any person to act as its representative at the meeting by providing a resolution of its board of directors, or a proxy duly signed by the authorized person. The person so authorised shall be entitled to exercise the powers of an individual member of the Company.
- Since all shares issued to members are in a dematerialised format in their respective Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) accounts, the individual members desiring to attend the meeting in person, are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNICs) along with the Investor Account or Participant ID and House Account/Sub-Account numbers, for identification purposes. In the case of corporate members, the resolution of board of directors/POA with specimen signature of the nominee may preferably be provided to the Company well in advance or otherwise produced at the time of the meeting.
- Participation in AGM through Video-Conferencing Facility

The Company is facilitating the shareholders to attend the AGM via video-link, in addition to physical arrangements for the meeting. Therefore, the shareholders are encouraged to participate in the AGM through video-conferencing facility. Accordingly, they are requested to get themselves registered with the Company Secretariat by providing the requisite details at their earliest but not later than 5:00 p.m. on October 24, 2025.

The shareholders can register themselves via e-mail (shareholders.affairs@psx.com.pk), by providing the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC/Passport and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the board of directors/POA with a specimen signature of the nominee must also be provided.

Name of Shareholder*	CNIC/Passport/NTN No.	CDC Account No.	Cell No.	E-mail Address
----------------------	-----------------------	-----------------	----------	----------------

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder or nominee of the shareholder.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the relevant videolink and the login credentials to their e-mail addresses, to enable the shareholders participate in the proceedings of the AGM through their smartphones or computer devices. The shareholders can also provide their comments or suggestions in connection with the agenda of the meeting by using the same email.

The above arrangement would also cover the requirement of Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 (the Companies Act), in relation to providing video-link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

6. E-Dividend

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, to be read with relevant provisions of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 (the Regulations), all listed companies have been mandated to pay the dividend only by way of electronic mode, directly into the bank accounts of entitled shareholders designated by them. Accordingly, all shareholders of the Company who have not yet updated their bank account details (including IBAN) under their participant/CDC Investor Account Services which maintains their CDC account, are requested to update the same at the earliest but prior to the commencement of book closure. Otherwise, the Company would be constrained to withhold their amount of dividend, if any, in accordance with the requirements of the Companies Act and the Regulations.

7. Tax Implication on Dividend

The deduction of income tax from dividend payments shall be made in pursuance of the applicable provisions of Income Tax Ordinance, 2001. In case of joint shareholdings, the tax will be deducted as per shareholding proportions intimated by the shareholders to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, latest by the first day of book closure, otherwise the shareholding will be treated in equal proportion. In addition, the withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate or stay order from a competent court of law is made available to the Company's Share Registrar, by the first day of book closure.

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی۔ 74000، پاکستان
فون: 111-001-122، ویب سائٹ: www.psx.com.pk



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX / کمپنی) کا انجمنہاں (78 سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز منگل 28 اکتوبر 2025ء کی شام 4:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

- 30 جون 2025ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹریس کی وصولی وغیرہ وغیرہ اور منظوری۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے فی حصص 1.70 روپے، یعنی 17 فیصد کمیشن کی ادائیگی کی منظوری۔
- 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام (AGM) کے اختتام تک کمپنی کے آڈٹرز کا انتخاب اور ان کے معاشرے کا تین۔ بورڈ کی آڈٹ کمپنی کی سفارش کے پیش نظر، اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سیکورڈ ہونے والے آڈٹرز، مینسٹرز گرانٹ تھارنٹن انجمنہاں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، گزشتہ چھ سالوں سے کمپنی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے آڈٹرز کے طور پر مینسٹرز بی ڈی ادا براہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
ڈاکٹر خازنہ رضوان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
تاریخ: 03 اکتوبر 2025ء

نوٹ:

- 1- سالانہ رپورٹ 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے پیچھے دیئے گئے QR کوڈ کے ذریعے قابل رسائی ہیں:



<https://www.psx.com.pk/psx/exchange/psx-shareholder-information#financial-reports>

- 2- کمپنی کے ممبران رجسٹرڈ آفس سے بذریعہ درخواست گزشتہ منعقدہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔
نوٹ:
- 1- ممبران کا رجسٹر 22 اکتوبر 2025ء سے 28 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ وہ ممبران جن کے نام 21 اکتوبر 2025ء کے رجسٹر میں درج ہوں گے، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے قابل ہوں گے۔
- 2- اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے والا اہل میرا بنی جلد شرکت، ووٹ ڈالنے اور رائے دہی اختیار کرنے کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کرنے کا اہل ہے اور منتخب کئے جانے والے پراسی کو اجلاس میں شرکت، ووٹ اور رائے دہی اختیار کرنے کے سلسلے میں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ پراسی نامزد کرنے والے ممبر کو حاصل ہیں۔ پراسی کی تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی (POA) یا دیگر اٹارنی جس کے تحت اسے دستخط کیا گیا ہو یا ایسی پاور آف اٹارنی کی فوری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم 48 (48) گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانی چاہیے۔ پراسی فار مشینز ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے اور سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ پراسی کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔
- 3- کوئی بھی الیکٹرانک پورٹال پر جو کمپنی کا ممبر ہے، اپنے مجاز افسر کے دستخط شدہ پراسی یا اپنے ڈائریکٹرز کی قرارداد، اپنے کسی بھی حکام یا کسی دوسرے فرد کو اجلاس میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے اختیار دے سکتا ہے اور مجاز شدہ فرد کمپنی کے انفرادی ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنے اختیارات کو بروئے کار لانے کا اہل ہے۔
- 4- چونکہ ممبران کو جاری کردہ تمام حصص ان کے متعلقہ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) اکاؤنٹس میں ڈی میٹر یا انڈیکسڈ میں ہیں، لہذا انفرادی ممبران جو ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا مکمل کمپیوٹرائزڈ فوٹی شاپنگ کارڈز (CNICs) بشمول سر مایہ کار اکاؤنٹ یا شریک ID کارڈ یا اکاؤنٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ نمبر شناخت کے مقصد کیلئے ہمراہ لائیں، تاہم کارڈ پر پورے نمبر کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں، پیشی طور پر کمپنی کو پیشگی فراہم کیے جائیں بصورت دیگر اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں۔

5- ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت

کمپنی اجلاس میں شرکت کے انتظامات کے علاوہ حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لہذا حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کریں۔ ای ما سہت سے، ان سے استدعا ہے کہ وہ جلد از جلد تاہم بروز جمعہ 12 اکتوبر 2025ء کو شام 5:00 بجے تک کمپنی سیکریٹریٹ میں خود کو رجسٹر کروائیں۔
حصص یافتگان اپنی رجسٹریشن بذریعہ ای میل (shareholders.affairs@psx.com.pk) درج ذیل کوائف بشمول شناختی کارڈز/ پاسپورٹ اور اگر پراسی کو ہوتا ہے پراسی کی اسکرین شدہ کاپی فراہم کریں۔ مزید برآں، کارپوریٹ نمبر ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ POA کی اسکرین شدہ کاپی اور نمائندہ کے دستخط کی بھی فراہم کرنا ضروری ہوگا۔

شیر ہولڈر کا نام *	NTN / CNIC نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
--------------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------

* پراسی ہولڈرز یا شیر ہولڈر کے نامزد کردہ یا اٹھینٹیکیشن بھی فراہم کریں (جہاں قابل اطلاق ہو)

دیکھیں رکھنے والے حصص یافتگان سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد کمپنی مختلف ویڈیو لنک اور لاگ ان معلومات ان کے ای میل پتوں پر فراہم کرے گی۔ تاکہ حصص یافتگان اساتر فونز یا کمپیوٹرز آلات کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ، حصص یافتگان مذکورہ بالا ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹموں کے سلسلے میں اپنے تاثرات اور / یا تجاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔
مذکورہ بالا انتظام ہفرائی مقام پر قائم کمپنی کی مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگی (مجموعی طور پر) رکھنے والے ممبران کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں کمپنی ایکٹ کی دفعہ (b)(1) 134 کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔

6- ای۔ڈیوٹ:

کمپنی ایکٹ کی دفعہ 242 جس کو کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوٹیز) ریگولیشنز 2017ء (ریگولیشنز) کی متعلقہ شقوں کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیز ڈیوٹیز کی ادائیگی صرف الیکٹرانک انداز میں اہل حصص یافتگان کے جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرانے کی پابندی ہے لہذا کمپنی کے تمام حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے شرکت دارسی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹس دوسرے کثرت بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (بشمول IBAN) اپ ڈیٹ نہیں کروایا ہے، جو ان کے سی ڈی سی اکاؤنٹ کو سنبھالتے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد تاہم تکب بندش کے آغاز سے قبل اپ ڈیٹ کروائیں، بیان کردہ قواعد کو مدعا اور ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق، کمپنی ڈیوٹیز کی رقم کی ادائیگیوں کے لئے پر مجبور ہوگی (اگر ہے)۔

7- ڈیوٹیز پر ٹیکس کا اطلاق

ڈیوٹیز کی ادائیگیوں سے آئٹیکس کی کوئی آئٹیکس آرڈیننس، 2001ء کے قابل اطلاق دفعات کے مطابق کی جائے گی۔ مشینز کمپنیز ہولڈنگز کی صورت میں، کمپنی کے شیرز رجسٹر اریمریز FAMCO شیرز رجسٹریشن سرورس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو تکب بندش سے ایک دن قبل حصص یافتگان کی جانب سے مطلع کردہ شیرز ہولڈنگ کے سب کے مطابق ٹیکس کوئی کی جائے گی، بصورت دیگر شیرز ہولڈنگ کا تناسب مساوی تصور کیا جائے گا۔ مزید برآں، ڈیوٹیز کی آمدنی سے وہ ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں، دی جائے گی جب ٹیکس سے استثنیٰ کے درست سرٹیفیکٹ کی کاپی یا کسی مجاز حالت سے استثنیٰ نامہ کی کاپی کمپنی کے شیرز رجسٹر اریمریز بندش سے ایک دن قبل دستیاب ہو۔